

Quad Senior Officials Meeting

August 12, 2021

کواڈ کے سینئر عہدیداروں کی میٹنگ

12 اگست، 2021

بھارتی وزارت خارجہ، آسٹریلیا کے محکمہ برائے خارجہ امور اور تجارت، جاپان کی وزارت خارجہ اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیداروں نے 12 اگست کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنی مشاورت جاری رکھنے کے لیے ملاقات کی۔ فروری میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد مارچ 2021 میں تاریخی پہلی قائدین سمٹ کا انعقاد کیا گیا جس نے مثبت نقطہ نظر اختیار کیا اور معاصر چیلنجز پر تعاون کو مضبوط بنانے کا عہد کیا۔

اس مشاورت نے ہند بحر الکاہل خطے میں کووڈ-19 کے وسیع اثرات، اور وبائی مرض پر قابو پانے، صحت کی حفاظت اور فوری معاشی بحالی کو یقینی بنانے کے لیے باہمی تعاون کی کوششوں کی اہمیت پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس تناظر میں انہوں نے کووڈ ویکسین اقدام کی پیش رفت کا جائزہ لیا جس کا اعلان قائدین نے کیا تھا، جس کا مقصد ویکسین پروڈکشن اور اس تک مساوی رسائی کو بڑھانا ہے۔

عہدیداروں نے مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، اور لچکدار سپلائی چین، ابھرتی ہوئی اور اہم ٹیکنالوجیز، میری ٹائم سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انفراسٹرکچر اور کنکٹوٹی، اعلیٰ تعلیم، موسمیاتی تبدیلی اور انسانی امداد اور آفات سے نمٹنے میں تعاون کے امکانات کو تلاش کیا۔

اپنی مشترکہ اقدار اور اصولوں کو یاد کرتے ہوئے، عہدیداروں نے بین الاقوامی قانون کے احترام پر مبنی آزاد، کھلے، خوشحال اور جامع ہند۔ بحر الکاہل خطے کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے آسیان مرکزیت، انڈو پیسیفک پر آسیان اوٹ لک اور علاقائی آرکیٹکچر میں آسیان کی زیر قیادت میکانزم کے لیے اپنی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔

عہدیداران باقاعدہ مشاورت جاری رکھنے اور اس سال کے آخر میں وزرائے خارجہ کی اگلی میٹنگ جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔

نئی دہلی

12 اگست، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.